

الْمَعَارِجُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

مانگا ایک مانگنے والے نے وہ عذاب جو واقع ہو کر رہے گا۔

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝۱

کافروں کے لئے نہیں اسکو کوئی ٹالنے والا۔

لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝۲

اللہ کی طرف سے جو درجات کا مالک ہے۔

مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ۝۳

پڑھتے ہیں فرشتے اور روح القدس جسکی طرف اس دن ہوگی جس کی مقدار پچاس ہزار برس۔

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ ۝۴
كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝۵

پس صبر کرو ایک اچھا صبر۔

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝۶

بیشک یہ سمجھتے ہیں اس کو بہت دور۔

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝۷

وَنَزَرَهُ قَرِيبًا ٧

اور دیکھ رہے ہیں ہم اسے قریب۔

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ٨

جس دن ہو جائے گا آسمان جیسے پگھلا ہوا تانبا۔

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ٩

اور ہو جائیں گے پہاڑے جیسے رنگین اون۔

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ١٠

اور نہ پوچھے گا کوئی دوست کسی دوست کو۔

يُبْصِرُ وَهُمْ يُؤَدُّ الْمَجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي ١١

دیکھ رہے ہوں ایک دوسرے کو۔ چاہے گا مجرم کاش کہ وہ فدیہ میں دیدے عذاب سے بچنے کے لئے اس دن اپنے پیٹے۔

مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَيْنِيهِ ١٢

اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی۔

وَصَاحِبَيْهِ وَأَخِيهِ ١٣

اور اپنا قریبی خاندان وہ جو اسکو جگہ دیتا تھا۔

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ١٤

اور جو زمین میں ہے سب۔ پھر اپنے آپکو نجات دلا دے۔

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ١٥

يُنْجِيهِ ١٦

ہرگز نہیں۔ بیشک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔

كَلَّا إِنَّهَا لَنظَى ١٧

نَزَاعَةٌ لِلشَّوْصِ^ص ١٦

ادھیڑینے والی کھال کو۔

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى^ل ١٧

بلانے گی اسکو جس نے پیٹھ کی اور منہ پھیر لیا۔

وَجَمَعَ فَأَوْعَى^ل ١٨

اور مال جمع کیا پھر سینت سینت کر رکھا۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا^ل ١٩

بیشک انسان پیدا کیا گیا ہے کم حوصلہ۔

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا^ل ٢٠

جب پہنچتی ہے اسے تکلیف تو گھبرا جاتا ہے۔

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا^ل ٢١

اور جب ملتی ہے اسکو خوشحالی تو بخل کرتا ہے۔

إِلَّا الْمُصَلِّينَ^ل ٢٢

مگر نماز ادا کرنے والے۔

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
دَائِمُونَ^ل ٢٣

وہ جو ہیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنیوالے۔

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ^ل ٢٤

اور وہ جنکے مالوں میں حصہ مقرر ہے۔

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ^ل ٢٥

مانگنے والے کا اور محروم کا۔

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ^ل ٢٦

اور وہ جو برحق سمجھتے ہیں روز جزا کو۔

اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ
مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾

بیشک عذاب ان کے رب کا بے خوفی کی بات نہیں۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُوِنِ ﴿٢٨﴾

اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
حَفِظُونَ ﴿٢٩﴾

مگر اپنی بیویوں کے یا جو ملکیت میں انکے داہنے ہاتھوں (باندیوں) کی تو بیشک انہیں (ان کے پاس جانے کی) کچھ نہیں ملامت۔

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾

پس جو ڈھونڈیں سوائے اسکے تو میں وہ جو حد سے نکل جانے والے ہیں۔

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

اور وہ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
رَاعُونَ ﴿٣٢﴾

اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ
قَائِمُونَ

اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
يَحَافِظُونَ

یہی ہیں جو جنتوں میں عزت سے ہوں گے۔

أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ

تو کیا ہوا ہے (اے نبی) انکو جنہوں نے کفر کیا
کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔

فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ
مُهْطِعِينَ

دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے گروہ در
گروہ ہو کر۔

عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمَالِ
عِزِينَ

کیا امید رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ وہ
داخل کیا جائے گا نعمت کے باغ میں۔

أَيُّطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ
يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ

ہرگز نہیں۔ بیشک ہم نے پیدا کیا ہے ان کو
اس چیز سے جسے یہ جانتے ہیں۔

كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ

پس نہیں۔ قسم کھاتا ہوں میں رب کی مشرقوں
اور مغربوں کے بلاشبہ ہم قادر ہیں۔

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿٤١﴾

اس پر کہ بدل لائیں ہم بہتر ان لوگوں سے۔
اور نہیں میں ہم (ایسا کرنے سے) عاجز۔

عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ
بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾

تو چھوڑ دو انہیں (اے پیغمبر) کہ مشغلوں میں
ریں اور کھیل کود میں رہیں حتیٰ کہ پہنچ جائیں
اس دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

فَدَرُّهُمْ يَجُوزُ وَوَايَلَعَبُوا حَتَّىٰ يُلْقُوا
يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٤٢﴾

جس دن یہ نکلیں گے قبروں سے تیزی سے
دوڑتے ہوئے جیسے وہ کسی مقابلے کے نشان
کی طرف دوڑے جا رہے ہوں۔

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا
كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصَبٍ يُوْفُّونَ ﴿٤٣﴾

جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں۔ چھا رہی ہو
گی ان پر ذلت۔ یہی ہے وہ دن جس کا ان
سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ
ذٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا
يُوْعَدُونَ ﴿٤٤﴾

